



سٹی آف برامپٹن کے گلیوں کی صفائی کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (31 مارچ 2021) – سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشی علاقوں میں موجود سڑکوں پر 2021 سٹریٹ سویپنگ پروگرام کا آغاز رواں ہفتے کے آغاز سے کر رہا ہے۔ دیگر تمام علاقوں میں صفائی کے کام کا آغاز مورخہ 6 اپریل، بروز منگل سے شروع کیا جائے گا۔

گلیوں اور نالیوں کی صفائی کے لیے موسم بہار میں شہر کی سڑکوں سے ریت اور ملبہ مکمل طور پر ہٹایا جاتا ہے۔ ملبہ ہٹانے کی وجہ سے طوفانی بارشوں کا پانی زمین کی سطح پر نہیں آتا اور ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کو صاف ستھری سڑکیں میسر آتی ہیں۔ موسم بہار کی صفائی کے پروگرام میں درج ذیل شامل ہے:

- شہر کی ملکیتی ایسی تمام سڑکیں جن کی بالائی تہہ اسفالٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بشمول پل، کیچ بیسن اور گٹرز کی صفائی
- سخت سطحوں کے حامل بولیورڈز اور میڈیٹیز کی صفائی
- موسم سرما کے دوران سٹی کی جانب سے ہل چلائی جانے والی سائیڈ واکس اور واک ویز کی صفائی
- سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز اور دیگر سہولت گاہوں کی پارکنگ کی جگہوں کی صفائی
- مضافاتی علاقوں کی بغیر رکاوٹ والی سڑکوں کو ضرورت کے مطابق دھویا اور/یا صاف کیا جائے گا
- سائیڈ واکس کی صفائی
- نمک کے ڈھیلوں اور برف کی باڑ کو ہٹانا
- بولیورڈز کی مشینی صفائی
- سبزہ زاروں کی مرمت
- سٹی کے پارکس ڈیپارٹمنٹ کی شراکت سے کچرہ اٹھانے کا کام

موسم بہار کے سویپ پروگرام کے دوران، شہریوں کو درج ذیل یاددہانیاں کرائی جاتی ہیں:

- پیر تا جمعہ، صبح 7 سے شام 4 بجے تک رہائشی علاقوں کی سڑکوں پر گاڑیاں پارک نہ کریں
- ڈرائیو ویز پر کھڑی گاڑیوں کا کوئی بھی حصہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے
- کلیکشن کے دنوں کے دوران کچرا دان اور ری سائیکلنگ کے ڈبے سڑکوں سے دور رکھیں
- باسکٹ بال اور باکی کے نیٹس کو سڑکوں سے دور اور پکٹنڈیوں سے کافی فاصلے پر رکھیں
- براہ کرم تعاون کریں۔ سڑکوں کی صفائی کے دوران، تھوڑا بہت شور شرابہ اور گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے
- براہ کرم صبر سے کام لیں، کیونکہ بارشوں اور ٹھنڈ کے دوران گلیاں صاف کرنے والا عملہ اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکا۔ صفائی کا پروگرام جاری رکھنے کے لیے درجہ حرارت مستقل طور پر صفر سے زیادہ ہونا چاہیے

سپرنگ سویپنگ پروگرام اور یہ کہ آپ کے علاقے میں کیا کام چل رہا ہے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم [یہاں](#) کلک کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca